



سوال

(502) مہمان کیلئے ذبح کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مہمان کیلئے جانور ذبح کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے جبکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وما اهل بہ لغیر اللہ اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے... (حرام ہے)۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوٰۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

مہمان نوازی کے لئے جانور ذبح کرنا جائز ہے جبکہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ وما اهل بہ لغیر اللہ (المائدہ ۵/۳) اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے (وہ حرام ہے) کے عموم میں داخل نہیں ہے کیونکہ اس آیت سے مقصود وہ جانور ہے جسے غیر اللہ کیلئے ذبح کیا جائے مثلاً مردوں وغیرہ کے تقرب کے حصول کیلئے ذبح کرنا۔ جہاں تک مہمان کیلئے ذبح کرنے کا تعلق ہے تو اس سے مقصود مہمان کی عزت افزائی ہوتا ہے نہ کہ اس کی عبادت کرنا اور رسول اللہ ﷺ نے مہمان کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔

حدا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 3 ص 460

محدث فتویٰ